



## سوال

(8) بازار میں تسبیح پڑھنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تسبیح کا پڑھنا بازار میں اور دوکان وغیرہ مواضع پر پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ بیٹوا۔

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بحکم آیت [1]: **لَا تُلْبِسُوهُمْ تِجَارَةً وَلَا تَبِعْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ** بازار میں اور دوکان وغیرہ مواضع پر تسبیح و تملیل و تہنید و ذکر اللہ جائز ہے۔ بشرط یہ کہ ریاسے خالی ہو اور اظہار و صلاح و تقویٰ کی غرض سے نہ ہو اور مکرو فریب کے لیے ہاتھ میں تسبیح لیے پھرنا اور بازار میں اور دوکان وغیرہ مجمع عام میں بیٹھ کر سہہ گرانی کرنا سخت ممنوع و ناجائز ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم۔ (سید محمد ندیر حسین)

ہوالموفق :-

اذکار اور حملہ عبادات کے لیے اخلاص اور نیت نیک نہایت ضروری ہے۔ ریائی ذکر اور مکرو فریب کی عبادت محنت برباد گناہ لازم کی مصدق ہے۔ نیت کا حال تو خدا کو معلوم مگر دوکان وغیرہ مناظر عامہ پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنا اور بازاروں میں سہہ گردانی کرتے پھرنا بظاہر ریاسے خالی نہیں۔ ریاکار مکار کی تسبیح گردانی کے متعلق کسی کیا خوب کہا ہے۔

سہہ وردرست توہمی گوید

دل بگردان مراچہ گردانی

ہاں یہ بھی واضح رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس تسبیح مروجہ کا وجود نہیں تھا۔ علامہ قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں تحت حدیث:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توجھا فحسن الوضوء ثم أتى النجوة فأنصح وأنفست فغير زاد ما بينه وبين النجوة وزاد ولا يتأنيام ومن من أنحسى فهدى لنا [2]

(کتبہ محمد عبدالرحمان للمبارکٹوری عفا اللہ عنہ)

[1] - وہ ایسے آدمی ہیں کہ ان کو خرید و فروخت خدا کی یاد سے نہیں روک سکتی۔



[2]۔ جو آدمی اچھی طرح وضو کر کے جمعہ کے لیے آئے اور خطبہ خاموشی سے سنے اس کے گناہ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک دو تین دن کے زائد گناہ بھی بخشے جاتے ہیں اور جس نے کنکری کو چھوا اس نے لغو کیا کنکری کو ہاتھ لگانے سے مرد سجدہ کے لیے زمین کو برابر کرنا ہے اور بعض نے اس کا مطلب تسبیح پھیرنا لیا ہے۔ چونکہ یہ موجودہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھی لوگ کنکریوں پر ہی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔

حدیث احمدی والنداء علم بالصواب

## فتاویٰ نذیریہ

جلد: 2، کتاب الاذکار والدعوات والقراءة: صفحہ: 12

محدث فتویٰ